

# PSAT 10 Test Directions

Translated into Urdu for Students

## Notes to the Proctor

### Using this document on test day:

Distribute this document once students are seated.

Students may use this document to read translations of the directions that are read aloud or printed in their test book. Students may keep this document open and on their desk during the entire testing period. Students may **not** be given additional time, unless approved as a separate accommodation.

Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.

# طلبا کیلئے نوٹس

مندرجہ ذیل ان ہدایات کا ترجمہ ہے جو نگران باآواز بلند پڑھے گا، نیز ان تحریری ہدایات کا بھی جو آپ کی امتحانی کتاب میں موجود ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا نگران انگریزی ہدایات باآواز بلند پڑھتا جائے اس کے ساتھ ترجمہ دیکھتے جائیں۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو کہ آپ کا نگران کیا پڑھ رہا ہے تو براہ کرم اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

- یہ ترجمہ شدہ ہدایات ہو سکتا ہے ان سے حرف بہ حرف مماثل نہ ہوں جو آپ کا نگران پڑھتا ہے؛ تاہم، متعلقہ معلومات وہی ہیں۔
- ممکن ہے کہ آپ کا نگران کچھ ایسی ہدایات نظر انداز کر دے جو آپ کی امتحانی صورت حال پر لاگو نہیں ہوتیں۔
- آپ امتحان کے پورے وقت کے دوران اس دستاویز کو اپنی ڈیسک پر رکھ سکتے ہیں، تاہم امتحان کے بعد اسے نگران کو لوٹانا ہو گا۔
- آپ اس دستاویز کو فالتو کاغذ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔
- مختلف اوقات پر، آپ کا نگران سیکشن میں باقی وقت کا اعلان کرے گا، نیز وقفوں کا بھی، جیسا کہ مناسب ہو۔ اگر آپ منظور شدہ گنجائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں تو یہ اعلانات اس ترجمہ شدہ دستاویز میں درج اوقات اور وقفوں سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے نگران کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔
- اگر آپ منظور شدہ گنجائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں، تو آپ کا نگران آپ کو انگریزی میں اضافی ہدایات دے سکتا ہے۔
- آپ کی توجہ مخصوص معلومات کی جانب مبذول کروانے کے لئے اس پوری دستاویز میں آئیکنز کا استعمال کیا گیا ہے:

اہم معلومات



آپ کی امتحانی کتاب میں موجود ہدایات



تمام اجاگر کردہ متن ان ہدایات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو آپ کا نگران بولتا ہے

# مشمولات

## 1 Notes to the Proctor

### 2 طلبا کیلئے نوٹس

#### 4 امتحان کے دن کی اسکوپٹس

- 4 امتحان شروع ہونے سے قبل
- 5 طلباء میں جوابی شیٹس تقسیم کرنا
- 7 امتحانی کتاب کھل کر تقسیم
- 8 تصدیق کا بیان مکمل کرنا
- 8 امتحانی کتاب کی معلومات مکمل کرنا
- 9 سرورق کی ہدایات
- 10 پچھلے کور کی ہدایات
- 11 سیکشن 1: پڑھنے کا امتحان
- 11 سیکشن کے دوران
- 12 سیکشن 1 امتحانی کتاب کی ہدایات
- 12 سیکشن 1 کے بعد
- 12 سیکشن 2: تحریری اور زبانی امتحان
- 13 سیکشن کے دوران
- 13 سیکشن 2 امتحانی کتاب کی ہدایات
- 14 سیکشن 2 کے بعد
- 14 سیکشن 3: ریاضی کا امتحان - کوئی کیلکولیٹر نہیں
- 14 سیکشن کے دوران
- 16 سیکشن 3 امتحانی کتاب کی ہدایات
- 17 سیکشن 3 کے بعد
- 18 سیکشن 4: ریاضی کا امتحان - کیلکولیٹر
- 19 سیکشن کے دوران
- 20 سیکشن 4 امتحانی کتاب کی ہدایات
- 21 سیکشن 4 کے بعد

#### 23 امتحان کے بعد

- 23 برخواستگی
- 23 امتحانی کتب اور دیگر امتحانی مواد کا مجموعہ ختم کرنا
- 23 طلبا کو برخواستہ کرنے کی تیاری
- 23 جوابی شیٹوں کو مکمل کرنا
- 25 جوابی شیٹ کا جمع کرنا اور طلباء کی برخواستگی

# 1 امتحان کے دن کی اسکرپٹس

## 1.1 امتحان شروع ہونے سے قبل

آپ کا نگران یہ کہہ کر آغاز کرے گا:

PSAT 10 انتظامیہ میں خوش آمدید۔ اس امتحان میں اس پر فوکس کیا جائے گا جو آپ کو ہائی اسکول کے دوران پہلے ہی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ یہ SAT کی مشق کرنے، یہ دیکھنے کہ آپ کو کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور اسکا لرشپ پروگراموں کے لئے اہل قرار پانے کا بھی موقع ہے۔ اگر آپ طباعت شدہ ہدایات استعمال کر رہے ہیں تو، ان ہدایات پر اس طرح عمل کریں جس طرح میں ہدایات دوں۔

اس سے قبل کہ ہم امتحان شروع کریں، میں کچھ ہدایات پڑھ کر سناؤں گا۔ براہ کرم دھیان سے سنیں اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ یاد رکھیں، اس امتحان میں میرا کردار یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہنر اور معلومات کا مظاہرہ کرنے کیلئے بہترین موقع فراہم کرنا یقینی بنایا جاسکے۔

آج کے امتحان میں، آپ اپنی جوائی شیٹ پر نشان لگانے کے لئے صرف نمبر 2 پنسل استعمال کر سکتے ہیں۔ مکینیکل پنسلوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نمبر 2 پنسل نہیں ہے تو براہ کرم اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اور میں آپ کو پنسل دوں گا۔

اس کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

College Board PSAT 10 شرائط و ضوابط میں ایسے قواعد و ضوابط شامل ہیں جس سے یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تمام طلباء کو منصفانہ اور مساوی امتحان کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو تنگ کرتا ہے یا کوئی غیر منصفانہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو میں اسے کمرے سے رخصت ہو جانے کا کہوں گا اور اس کے سکورز منسوخ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ انہیں آئندہ College Board کے دیگر امتحانات دینے سے بھی روک دیا جائے۔

آپ کا نگران یہ کہتے ہوئے غلط بتاؤ کی مثالیں دے گا:

غیر منصفانہ فوائد کی کچھ مثالیں یہ ہیں:

- امتحان میں کسی بھی قسم کی مدد دینا یا حاصل کرنا
- وقت شروع ہونے سے قبل امتحانی کتاب دیکھنا
- جس پر ہم فی الوقت موجود ہوں اس کے علاوہ کسی اور سیکشن یا امتحان کو دیکھنا
- وقت ختم ہونے کا اعلان کیے جانے کے بعد جوابات کو نشان زد یا تبدیل کرنا
- کمرہ امتحان سے امتحانی مواد باہر لے جانے کی کوشش کرنا
- امتحان یا وقفے کے دوران فون یا کسی بھی غیر قانونی امتحانی امداد کا اپنے پاس رکھنا
- امتحان کے دوران یا اس کے بعد جوابات کسی کے ساتھ شیئر کرنا یا کسی طرح کی جوائی کنجی اپنے پاس رکھنا
- امتحان کے دوران لاکر کے پاس جانا یا بلڈنگ سے باہر نکل جانا
- کسی اور کیلئے امتحان دینے کی کوشش کرنا
- منظور شدہ گنجائش کے بغیر امتحان کے دوران کھانا یا پینا
- خلل پیدا کرنا
- امتحانی طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکام ہونا

یہ پالیسیاں یقینی بنانے میں مدد کرتی ہیں کہ آج آپ کا تجربہ منصفانہ رہے اور آپ بغیر کسی خلل کے اپنے امتحان پر توجہ دے سکیں۔

(A) اگر آپ کے اسکول نے ذاتی سامان اکٹھا کر لیا ہے تو آپ کا نگران بتائے گا:

اب تک آپ نے اپنے سبھی فونز اور دیگر کوئی بھی الیکٹرونک آلہ ہمارے حوالے کر دیا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اب بھی کسی قسم کا الیکٹرونک آلہ، بشمول اسمارٹ واچ یا فینس ٹریکر ہے، تو براہ کرم کوئی بھی الارمز آف کر دیں، اس کا پاور آف کر دیں، اور اسے اچھی طرح دے دیں۔ امتحان کے بعد اسے آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔

(B) اگر آپ کا اسکول ذاتی سامان اکٹھا نہیں کرتا ہے تو آپ کا نگران کہے گا:

اس وقت پر، اگر آپ کے پاس کوئی فون یا کسی قسم کا کوئی الیکٹرونک آلہ، بشمول اسمارٹ واچ یا فینس ٹریکر موجود ہے، تو آپ کو کسی بھی قسم کے الارمز غیر فعال کر دینے چاہئیں، اسے مکمل طور پر آف کر دینا چاہیے، اور امتحان ختم ہونے تک اسے کمرے کے ایک طرف بیگ یا بیگ پیک میں ڈال کر رکھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنا فون اسٹور کرنے کے لئے بیگ درکار ہے، تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور میں آپ کو ایک پلاسٹک بیگ فراہم کروں گا۔

آپ کا نگران یہ کہہ کر تصدیق کرے گا کہ کسی بھی الیکٹرونک آلات کی اجازت نہیں ہے:

ایسا کوئی بھی الیکٹرونک آلہ جو آف نہیں کیا گیا ہو یا پرے نہ رکھا گیا ہو لے لیا جائے گا اور تفتیش کے حصے کے طور پر اس کے مواد کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اگر آپ کو آلہ کے ساتھ دیکھا گیا یا آپ کے پاس ہوتے ہوئے آلہ نے آواز پیدا کی یا خلل پیدا کیا تو مجھے آپ کو امتحان سے برخاست کرنا پڑے گا۔ اب سے، جس بھی طالب علم کے پاس مجھے فون، اسمارٹ واچ، یا کوئی اور الیکٹرونک آلہ دکھانی دیا میں اسے برخاست کر دوں گا۔

اس کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

- اب تک ان ہدایات پر توجہ دینے کے لئے شکریہ۔ اب ہم امتحان شروع کرنے کی تیاری کرنے والے ہیں۔
- اپنے ڈیسک سے ہر ایک کو اپنے نمبر 2 پنسل، قابل قبول کیلکولیٹر، اور بیگ اپ کیلکولیٹر کے علاوہ ہر چیز کو ہٹا دیں۔ اگر آپ طباعت شدہ ٹیسٹ کی سمتوں یا لفظ بہ لفظ لغت استعمال کر رہے ہیں تو، ان اشیاء کو بھی اپنے ڈیسک پر رکھیں۔
- اگر آپ اضافی بیٹریاں، ڈرنکس یا اسٹیکس لائے ہیں تو انہیں اپنی ڈیسک کے نیچے فرش پر رکھ دیں۔
- اگر آپ کی ڈیسک پر کوئی بیگ یا بیگ پیک باقی ہے تو اسے بند کر کے امتحان ختم ہونے تک کمرے کے ایک طرف رکھ دیں۔

سبھی طلباء کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

براہ کرم خاموشی سے بیٹھیں تب تک میں ادھر ادھر نگاہ ڈال کر یقینی بناتا ہوں کہ آپ سبھی قابل قبول کیلکولیٹرز استعمال کر رہے ہیں۔

## 1.1.1 طلباء میں جوابی شیٹس تقسیم کرنا

جوابی شیٹس تقسیم کرنے کے بعد، آپ کا نگران کہے گا:

یہ وہ جوابی شیٹس ہیں جنہیں آپ اپنے امتحان میں جوابات نشان زد کرنے کیلئے استعمال کریں گے۔ اگر آپ ایک بڑی پرنٹ والا جواب شیٹ استعمال کر رہے ہیں تو، براہ کرم اپنے جوابات کو نشان زد کرنے کے طریقے کے بارے میں اپنی جوابی ورق کے صفحہ 1 پر دی گئی ہدایات پڑھیں۔ آپ کے صفحہ نمبرز ان سے مختلف ہوں گے جن کا میں اعلان کروں گا، تاہم فیلڈ نمبرز ان فیلڈ نمبرز سے مماثل ہوں گے جو میں سب کو فراہم کروں گا۔ آپ بلبلے بھرنے کی بجائے مربعوں کو X کے ساتھ نشان زد کریں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی وقت اعانت درکار ہو تو براہ کرم اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔

سبھی طلباء کے لیے، آپ کا نگران کے گا:

یہاں موجود سبھی لوگوں کے پاس لیبل اور/یا پرنٹ شدہ اور بلبیلے میں موجود معلومات والی جوابی شیٹ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس درست جوابی شیٹ ہے یہ چیک کرنے کیلئے براہ کرم یقینی بنائیں کہ اس پر آپ کا درست قانونی نام اور تاریخ پیدائش موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس غلط جوابی شیٹ ہے یا آپ کو لیبل پر کوئی خرابی دکھائی دے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

ایسے طلباء سے جنہوں نے پری ایڈمنسٹریشن میں حصہ نہیں لیا ہوگا، آپ کا نگران کے گا:

آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس اس جوابی شیٹ پر پہلے سے ہی لیبل اور/یا پرنٹ شدہ اور بلبیلے میں موجود معلومات ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو، براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی جوابی شیٹ پر دی گئی معلومات درست ہیں۔ اگر معلومات درست ہیں تو براہ کرم چند منٹ خاموشی سے انتظار کریں جب تک کہ میں دیگر طلباء کو ان کی جوابی شیٹس میں مطلوبہ فیلڈز پُر کرنے کے حوالے سے ہدایات دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی جوابی شیٹ پر کوئی بھی معلومات غلط ہے تو، اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

جن طلباء کو اپنی جوابی شیٹس پر فیلڈ 1 کے لئے، معلومات مکمل کرنی ہیں ان کے لئے، آپ کا نگران کے گا:

اگر آپ کو جوابی شیٹ پر فیلڈز کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے تو، فیلڈ 1 سے شروعات کریں۔ اپنا قانونی آخری نام، پہلا نام اور درمیانی نام اگر آپ کے پاس ہے تو پُر کریں، جیسا کہ وہ آپ کے لیبل پر موجود ہوتا ہے (اگر آپ کے پاس ہے)۔ اگر وقفہ، ربط کے نشانات، یا حذنی علامات آپ کے نام کا حصہ ہیں تو براہ کرم انہیں شامل کریں۔ خانوں میں سبھی بڑے جلی حروف پرنٹ کریں، پھر متعلقہ بلبیلے بھریں۔ یقینی بنائیں کہ ہر نشان گہرا ہو اور بلبیلے کو مکمل طور پر بھرے۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ 2 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

فیلڈ 2 میں، اگر آپ اس اسکول میں جاتے ہیں، تو ہمارا 6 ہندسوں والا اسکول کا کوڈ پرنٹ کریں اور متعلقہ بلبیلوں کو بھریں۔ اگر آپ مستقل طور سے اس اسکول میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور میں آپ کے مدد کے لئے آؤں گا۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ 3 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

فیلڈ نمبر 3 میں، اگر آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو، "Yes" ("ہاں") کے لیے خانہ بھریں۔ جو بھی باقاعدگی سے اس اسکول میں نہیں پڑھتے وہ اس بلبیلے کو بھریں جو آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوالات رکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

فیلڈ نمبر 4 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

فیلڈ نمبر 4 میں، اگر آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو، ہمارے اسکول کا نام، شہر اور اسٹیٹ پرنٹ کریں۔ اگر آپ مستقل طور سے اس اسکول میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور میں آپ کے مدد کے لئے آؤں گا۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

اگر آپ کا اسکول فیلڈ 5 کے لئے، طالب علم کے ID نمبر استعمال کر رہا ہے، تو آپ کا نگران کے گا:

فیلڈ نمبر 5 میں، اپنے طالب علم کے شناختی نمبر میں پرنٹ کریں اور خانہ پُر کریں، بائیں طرف پہلے کالم سے شروع کریں۔ اگر آپ کے شناختی نمبر میں حروف ہیں تو ان کو چھوڑ دیں اور صرف ہندسے درج کریں۔ اگر آپ کو اپنا طالب علم کا ID نمبر معلوم نہیں ہے، تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ 6 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

فیلڈ 6 کیلئے، اپنا حالیہ گریڈ پُر کریں۔

فیلڈ 7 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:  
فیلڈ 7 مکمل کریں۔

فیلڈ 8 کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

اپنی تاریخ پیدائش کے لیے، اپنی پیدائش کے ماہ کے لیے بلبہ بھریں۔ بڑے پرنٹ والی جوابی کلیوں پر، مہینے کو ہندسوں میں بھریں، صفر سے شروع کریں، اگر مہینہ میں صرف 1 ہندسہ ہے۔ اس کے بعد، اپنی پیدائش کے دن کے لئے 2 ہندسوں والا نمبر لکھیں، نیز اگر دن 10 سے چھوٹا ہو تو صفر سے آغاز کریں۔ اس کے بعد اپنی پیدائش کے سال کیلئے آخری 2 ہندسے لکھیں۔ متعلقہ بلبہ بھریں اور مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

امتحانی کتابیں تقسیم کرنے سے قبل، آپ کا نگران کے گا:

اگر آپ کو اپنی جوابی شیٹ کے غیر امتحانی حصے میں اور کوئی فیلڈز پر کرنی ہیں، تو امتحان ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کا موقع ملے گا۔

## امتحانی کتاب کی تقسیم

1.1.2

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کے گا:

میں اب آپ کی امتحانی کتابیں تقسیم کروں گا۔ جب تک میں نہ کہوں انہیں مت کھولے گا۔

جب سبھی طلباء کو ان کی امتحانی کتابیں مل جائیں گی، تو آپ کا نگران کے گا:

اپنی امتحانی کتاب پلٹائیں اور پچھلا کور پڑھیں۔ اس پر امتحان اور اپنے جوابات کو صحیح سے نشان زد کرنے کے بارے میں اہم معلومات درج ہیں۔

آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کے گا:

امتحانی کتاب کی پشت پر، صاف طور پر اپنا نام، اس اسکول کا کوڈ اور نام، اور اس کمرے کے کمرہ امتحان کا کوڈ یا نام لکھیں، جو میں نے آپ کے لئے پوسٹ کر دیا ہے۔

آپ کا نگران یہ کہہ کر جوابات کو نشان زد کرنے کے لیے اضافی ہدایات دے گا:

یہ اہم ہے کہ آپ اپنے جوابات نشان زد کرنے کیلئے ہدایات پر عمل کریں تاکہ آپ کی جوابی شیٹ کو سکور دیا جاسکے۔ میں اہم ترین نکات کی تاکید کروں گا تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ واضح ہیں۔ براہ کرم دھیان سے سنیں۔

▪ جوابی شیٹ میں اپنے سبھی جوابات نشان زد کریں۔ آپ فالتو کام کے لیے اپنی امتحانی کتاب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف جوابی پرچے پر نشان زد جوابات پر ہی اسکور ملے گا، الا یہ کہ آپ کو امتحانی کتاب میں انہیں نشان زد کرنے کی منظوری ملی ہو۔

▪ وقت ختم ہونے کا اعلان ہونے کے بعد، آپ اپنی امتحانی کتاب سے جوابی شیٹ میں جوابات منتقل نہیں کر سکتے نہ ہی بلبے بھر سکتے ہیں۔

▪ نمبر 2 پینسل استعمال کرنا یقینی بنائیں۔ پین، رنلین پینسل یا میکینیکل پینسل استعمال مت کریں۔

▪ ہر سوال کیلئے 1 ہی جواب نشان زد کریں اور جوابی شیٹ پر موجود بلبوں کو گہرے اور مکمل طریقے سے بھریں۔

▪ جوابات کے علاوہ اپنی جوابی شیٹ میں اور کوئی نشانات مت بنائیں۔ آپ کی جوابی شیٹ میں بلاوجہ کے نشانات سکورنگ میں مداخلت کریں گے۔

▪ اگر آپ مٹاتے ہیں، تو مکمل طور پر مٹائیں۔ نامکمل طور پر مٹانے کو مقصود جواب کے طور پر اسکور دیا جاسکتا ہے۔

جن طلباء کو اپنے امتحان پوک میں جوابات ریکارڈ کرنے کی منظوری مل ہے، ان کے بارے میں آپ کے نگران کہیں گے:  
 آپ کو امتحانی کتاب میں اپنے جوابات درج کرنے کی منظوری مل گئی ہے۔ اپنی امتحانی کتاب میں اپنے منتخب کردہ جواب کے حرف پر دائرہ ضرور بنائیں۔ ہر سوال کیلئے صرف 1 جواب پر دائرہ بنائیں۔ اگر آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے اپنی کوشش کی حد تک مکمل طور پر مٹائیں۔

### 1.1.3 تصدیق کا بیان مکمل کرنا

آپ کا نگران کہے گا:

اب براہ کرم اپنی جوابی شیٹ کی پشت پر تصدیق کا بیان (Certification Statement) ملاحظہ کریں۔  
 اس بیان پر دستخط کر کے، آپ کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی ذریعے سے، امتحان کے کسی بھی مواد کا اشتراک نہیں کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، جس میں ای میل، متنی پیغامات، انٹرنیٹ پوسٹس، یا انٹرنیٹ کا دیگر استعمال بلا تحدید شامل ہیں۔ ایسا کرنے سے اسکور منسوخی یا دیگر ممکنہ منظوری ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کی وضاحت PSAT 10 Student Guide میں کی گئی ہے۔

اپنی جوابی شیٹ پر بیان اور درج معلومات پڑھیں، پھر اپنے پورے نام کا دستخط ویسے ہی کریں جس طرح آپ کسی باضابطہ دستاویز پر کریں گے۔ اپنے دستخط کے نیچے، اپنا نام پرنٹ کریں اور آج کی تاریخ درج کریں۔  
 جب آپ ختم کر لیں تو اپنی پنسل رکھ دیں۔

### 1.1.4 امتحانی کتاب کی معلومات مکمل کرنا

فیلڈ A، Form Code (فارم کوڈ) کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

اپنی جوابی شیٹ کے پچھلے حصے پر فیلڈ A تلاش کریں۔ اگر آپ بڑی پرنٹ والی جوابی شیٹ استعمال کر رہے ہیں، فیلڈ A صفحہ 7 پر ہے۔ جس امتحانی فارمیٹ کے ساتھ آپ امتحان دے رہے ہیں اس کے پچھلے حصے میں Form Code (فارم کوڈ) تلاش کریں—وہ آپ کی امتحانی کتاب ہے، ریڈز کا اسکریٹ (آپ کے انسانی قاری کو فراہم کردہ)، ہریل کتاب، یا flash drive (فلش ڈرائیو) پیکیج۔ Form Code (فارم کوڈ) کو بالکل اسی طرح کاپی کریں جیسے یہ آپ کے ٹسٹ کے جوابی شیٹ پر فیلڈ اے میں ظاہر ہوتا ہے، اور مناسب بلبوں کو پُر کریں۔ جب آپ ختم کر لیں تو برائے کرم سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ B، Test ID (ٹیسٹ آئی ڈی) کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

فیلڈ A کے نیچے فیلڈ B تلاش کریں۔ جس امتحانی فارمیٹ کے ساتھ آپ امتحان دے رہے ہیں اس کی پشت پر Test ID (ٹیسٹ آئی ڈی) تلاش کریں—وہ آپ کی امتحانی کتاب ہے، ریڈز کا اسکریٹ (آپ کے انسانی قاری کو فراہم کردہ)، ہریل کتاب، یا flash drive (فلش ڈرائیو) پیکیج۔ Test ID (ٹیسٹ آئی ڈی) کو بالکل اسی طرح کاپی کریں جیسے یہ آپ کے جوابی کاپی شیٹ کے فیلڈ B میں ظاہر ہوتا ہے، اور مناسب بلبوں کو پُر کریں۔ جب آپ ختم کر لیں تو براہ کرم سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ C، Test Book Serial Number (ٹیسٹ بک سیریل نمبر) کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

اپنی امتحانی کتاب یا امتحان کے دیگر فارمیٹ کے سرورق کو دیکھیں۔ اوپری دائیں کونے میں "Test Book Serial Number (ٹیسٹ بک سیریل نمبر) کا لیبل لگا ہوا نمبر تلاش کریں۔ اپنا serial number (سیریل نمبر) اپنی جوابی شیٹ کی فیلڈ C میں درج کریں اور متعلقہ بلبوں کو بھریں۔



اس کے بعد آپ کا نگران کے گا:

اپنے اسکور حاصل کرنے میں دشواریوں سے بچنے کے لیے، یقینی بنائیں کہ آپ نے ان کو صحیح طریقے سے داخل کیا ہے اس کے لیے Form Code (فارم کوڈ)، Test ID (ٹیسٹ آئی ڈی) اور Test Book Serial Number (ٹیسٹ بک سیریل نمبر) فیلڈز کو چیک کریں۔

اگر آپ کا اسکول کمرہ امتحان کے کوڈز استعمال کرتا ہے، تو فیلڈ D کے لئے، آپ کا نگران کے گا:

اپنی جوابی شیٹ کے فیلڈ D میں، 3 ہندسوں کا ٹیسٹنگ روم کوڈ پُر کریں جو میں نے پوسٹ کیا ہے۔

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کے گا:

میرے کچھ حتمی ہدایات پڑھ لینے کے بعد آپ بس چند منٹ میں امتحان شروع کر دیں گے۔

امتحان دینے کے دوران، اپنی جوابی شیٹ اور امتحانی کتاب کو ڈیسک پر چپٹا کر رکھیں۔ اگر آپ کو اپنی جوابی شیٹ یا امتحانی کتاب کے حوالے سے کچھ خرابی معلوم ہو جیسے کہ کوئی صفحہ غائب ہو یا آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ اپنی جوابی شیٹ کے غلط سیکشن میں جوابات لکھ رہے تھے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

جوابی شیٹس اور امتحانی کتابیں کمرہ امتحان سے کبھی بھی باہر نہیں لے جانی چاہئیں۔

امتحان میں وقت سیکشن کے اعتبار سے مختص ہے۔ امتحان کے دوران آپ کو وقفے ملیں گے جن میں آپ اس کمرے سے باہر جا کر اسٹینکس وغیرہ کھا سکتے ہیں یا واش روم استعمال کر سکتے ہیں۔

میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے میں کمرہ کا چکر لگاؤں گا کہ ہر کوئی صحیح سیکشن پر کام کر رہا ہے۔ PSAT 10 کے لیے، آپ ایک وقت میں صرف 1 سیکشن پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگے سیکشن پر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کہا نہ جائے۔ یہ آپ جس کے عادی ہیں اس سے مختلف ہو سکتا ہے، لہذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آگے نہ بڑھیں یا پچھلے حصے کی طرف نہ دیکھیں، اگرچہ آپ موجودہ سیکشن کو جلدی ختم کر لیں۔

ایک بار ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد، براہ کرم بیٹھے رہیں جب تک کہ میں آپ کو باہر نہ کروں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی پوچھ سکتے ہیں۔

## سرورق کی ہدایات

1.1.5

مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے سرورق کا ترجمہ ہے۔



## اہم یاد دہانیاں

1. اس امتحان کے لئے نمبر 2 پنسل درکار ہے۔ میکینیکل پینسل یا پین استعمال نہ کریں۔
2. امتحان کے سوالات یا جوابات کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہماری شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ ہماری شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم آپ کا اسکور منسوخ کر سکتے ہیں اور آپ کو آئندہ تشخیصات دینے سے منع کر سکتے ہیں۔

یہ امتحانی کتاب کمرے سے باہر نہیں لے جانی چاہیے۔ اس امتحانی کتاب کے کسی بھی حصے کی غیر مجاز نقل یا استعمال ممنوع ہے۔

© College Board 2021، SAT، College Board، acorn اور لوگو College Board کے رجسٹر شدہ ٹریڈ مارکس ہیں۔ PSAT ایک تجارتی نشان ہے جو College Board کی زیر ملکیت ہے۔

مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے پچھلے کور کا ترجمہ ہے۔ جب ہدایت دی جائے، تو آپ کو اس دستاویز میں نہیں، بلکہ امتحانی کتاب یا جوابی شیٹ میں لکھنا چاہیے۔

آپ کا نام  
(تلی حروف میں)

امتحانی نام

پہلا نام

درمیانی نام

اسکول

اسکول کا کوڈ

اسکول کا نام

کروہ امتحان کا کوڈ / نام

## PSAT 10

### اہم

مندرجہ ذیل کوڈز آپ کی امتحانی کتاب کے لئے منفرد ہیں۔ انہیں اپنی جوابی شیٹ کے فیلڈز A اور B میں نقل کریں اور جس طرح دکھایا گیا ہے عین اسی طرح متعلقہ بلبوں کو بھریں۔

A Form Code									
A	A	A	A	0	0	0	0	0	0
B	B	B	B	1	1	1	1	1	1
C	C	C	C	2	2	2	2	2	2
D	D	D	D	3	3	3	3	3	3
E	E	E	E	4	4	4	4	4	4
F	F	F	F	5	5	5	5	5	5
G	G	G	G	6	6	6	6	6	6
H	H	H	H	7	7	7	7	7	7
I	I	I	I	8	8	8	8	8	8
J	J	J	J	9	9	9	9	9	9
K	K	K	K						
L	L	L	L						
M	M	M	M						
N	N	N	N						
O	O	O	O						
P	P	P	P						
Q	Q	Q	Q						
R	R	R	R						
S	S	S	S						
T	T	T	T						
U	U	U	U						
V	V	V	V						
W	W	W	W						
X	X	X	X						
Y	Y	Y	Y						
Z	Z	Z	Z						

B Test ID									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

### عمومی ہدایات

- آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی سیکشن پر کام کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ وقت ختم ہونے کا اعلان کیے جانے سے پہلے کوئی سیکشن مکمل کر لیتے ہیں، تو اس سیکشن میں اپنے کام کو چیک کر لیں۔ آپ کسی اور سیکشن پر نہیں جاسکتے۔

### جوابات نشان زد کرنا

- اپنی جوابی شیٹ کو درست طریقے سے نشان زد کرنا یقینی بنائیں۔
- ناموں کے نشانات:
- مسل کا نشان:

- آپ کو نمبر 2 پنسل استعمال کرنی چاہیے۔

- ہر سوال کے لئے دھیان سے صرف ایک ہی جواب نشان زد کریں۔

- پورے بلبے کو گہرے اور مکمل طور پر بھرنا یقینی بنائیں۔

- اپنی جوابی شیٹ میں بلاوجہ کوئی نشان مت ڈالیں۔

- اگر آپ مٹاتے ہیں، تو مکمل طور پر مٹائیں۔ نامکمل طور پر مٹانے کو مقصود جواب کے طور پر اسکو دیا جاسکتا ہے۔

- جواب دینے کی صرف وہی جگہیں استعمال کریں جو سوال نمبرز سے متعلق ہوں۔

### اپنی امتحانی کتاب استعمال کرنا

- آپ امتحانی کتاب کو فالتو کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، تاہم آپ اپنی امتحانی کتاب میں جو کچھ بھی لکھیں گے اس کے لئے آپ کو کریڈٹ موصول نہیں ہوگا۔

- وقت ختم ہونے کا اعلان ہونے کے بعد، آپ اپنی امتحانی کتاب سے جوابی شیٹ میں جوابات منتقل نہیں کر سکتے نہ ہی بلبے بھر سکتے ہیں۔

- آپ اس کتاب کے کسی صفحہ یا صفحہ کے حصوں کو تہ کر سکتے یا ہٹا نہیں سکتے، نہ ہی کتاب یا جوابی شیٹ کو کمرہ امتحان سے باہر لے جاسکتے ہیں۔

### اسکورنگ

- ہر درست جواب کے لئے، آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا۔

- غلط جوابات کے لئے آپ کے پوائنٹس نہیں کاٹے جائیں گے؛ لہذا آپ کو ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے آپ کو درست جواب کا یقینی طور پر علم نہ بھی ہو۔

اس امتحان کے جوالہ جات میں شامل نظریات، جن میں سے کچھ کو شائع شدہ مواد سے اقتباس یا جزوی ترمیم کے ساتھ لیا گیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ College Board کی رائے کی نمائندگی کریں۔

یہ کتاب مت کھولیں جب تک کہ آپ کا نگران آپ سے ایسا کرنے کو نہ کہے۔

## سیکشن 1: پڑھنے کا امتحان

1.2



سیکشن 1 کا معیاری وقت 60 منٹ ہے، جس میں سیکشن کے آخر میں 5 منٹ کے وقفے ہوتے ہیں۔ اگر آپ منظور شدہ گنجائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے اوقات اور وقفے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے نگران کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ ترجمہ شدہ زبانی ہدایات کے بعد امتحانی کتاب کی ہدایات کا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کہے گا:

ہم سیکشن 1، مطالعہ کے امتحان سے امتحان لینا شروع کریں گے۔ ایک بار جب ہم شروع کر دیں، تو آپ کے پاس 60 منٹ ہوگا سیکشن 1 پر کام کرنے کے لئے۔ سیکشن کے خاتمے کے بعد ہمیں ایک مختصر وقفہ ملے گا۔ میں اسٹارٹ اور اسٹاپ ٹائم پوسٹ کروں گا، اور جب آپ سیکشن کے آدھے راستے میں ہوں گے اور جب 5 منٹ باقی رہ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔

براہ کرم اپنی جوابی شیٹ کھول کر سیکشن نمبر 1 پر جائیں۔ جب تک میں نہ کہوں کام شروع مت کریں۔ اپنی جوابی شیٹ اور امتحانی کتاب کو ڈیسک پر چپٹا کر رکھیں۔ صفحات نہ موڑیں۔ جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 1 میں اپنے جوابات نشان زد کرنا یقینی بنائیں اور چیک کر لیں کہ آپ کے جوابات ہر نمبر شدہ سوال کیلئے درست جگہ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال بعد میں مکمل کرنے کے لئے چھوڑتے ہیں، تو جوابی شیٹ میں اس کی سطر خالی چھوڑنا یقینی بنائیں۔ اگر آپ اپنا جواب تیار کرتے ہیں، تو اسے ممکنہ حد تک پوری طرح سے منائیں۔

اگر آپ میرے وقت کے اختتام کے اعلان سے قبل فارغ ہو جاتے ہیں تو، آپ اس سیکشن میں اپنا کام چیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ امتحان کے کسی دوسرے حصے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ غلط جوابات پر آپ کے پوائنٹس نہیں کاٹے جائیں گے، لہذا ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں، چاہے آپ کو درست جواب کا یقینی طور پر علم نہ بھی ہو۔

اب، اپنے امتحان کی کتاب کے سیکشن 1 کھولیں۔ ہدایات پڑھیں اور کام شروع کریں۔ میری نیک تمنائیں، آپ سب کے ساتھ ہیں۔

امتحان شروع کرنے کے لئے، آپ کا نگران کہے گا:

وقت شروع ہوتا ہے اب۔

## سیکشن کے دوران

1.2.1

30 منٹ کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 1 کیلئے 30 منٹ باقی ہیں۔

55 منٹ کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 1 کیلئے 5 منٹ باقی ہیں۔

عین 60 منٹ کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

کام کرنا روک دیں اور اپنی پینسل نیچے رکھ دیں۔

## سیکشن 1 امتحانی کتاب کی ہدایات

مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن نمبر 1 کے آغاز میں موجود ہدایات کا ترجمہ ہے۔

1.2.2



60 منٹ، 47 سوالات (معیاری وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کا جواب دینے کیلئے اپنی جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 1 پر جائیں۔

### ہدایات

ذیل میں موجود ہر اقتباس یا اقتباسات کے جوڑے کے بعد کئی سوالات ہیں۔ ہر اقتباس یا جوڑے کو پڑھنے کے بعد، اقتباس یا اقتباسات اور ساتھ دیے گئے کسی بھی نقشے (جیسا کہ ٹیبل یا گراف) میں جو بیان کیا گیا ہے یا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہر سوال کا بہترین جواب منتخب کریں۔

### سیکشن 1 کے بعد

1.2.3

سبھی طلباء کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

اپنی جوابی شیٹ کو امتحانی کتاب کے اس صفحے پر رکھیں جس پر آپ نے کام کرنا بند کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب بند کر کے اسے اپنی ڈیسک پر چھوڑ دیں۔

وقفے کے لئے، آپ کا نگران کہے گا:

اب ہم 5-منٹ کے وقفے کے لئے رکیں گے۔ براہ کرم یہ قواعد و ضوابط دھیان سے سن لیں:

- امتحان کے دوران اس وقفے میں یا کسی اور وقفے میں امتحان کے سوالات سے متعلق بات چیت نہ کریں نا ہی کسی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال کریں۔
  - اگر آپ کو کمرہ چھوڑنے کی ضرورت ہو تو صرف مخصوص علاقوں، دالان، یا بیت الخلا میں جائیں۔
  - سنیکس اور مشروبات کی اجازت صرف مخصوص علاقوں میں ہے۔
  - براہ کرم دیگر کمروں میں کام کرنے والے طلباء کا خیال کریں اور ہال میں بات چیت نہ کریں۔
- ہم عین 5 منٹ کے بعد امتحان دوبارہ شروع کر دیں گے۔

وقفے کے اختتام پر، آپ کا نگران کہے گا:

برائے کرم اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ جب تک میں نہ کہوں اپنے امتحان کا کوئی سیکشن نہ کھولیں۔

## سیکشن 2: تحریری اور زبانی امتحان

1.3



سیکشن 2 کا معیاری وقت 35 منٹ ہے اگر آپ منظور شدہ گنجائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے اوقات اور وقفے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے نگران کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ ترجمہ شدہ زبانی ہدایات کے بعد امتحانی کتاب کی ہدایات کا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے۔

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کہے گا:

ہم سیکشن 2 کے ساتھ، لکھنا اور زبان کا امتحان جاری رکھیں گے ایک بار ہم شروع کریں گے، آپ کے پاس 35 منٹ ہوگا سیکشن 2 پر کام کرنے کے لئے۔ میں اسٹارٹ اور اسٹاپ اوقات پوسٹ کروں گا، اور جب میں اس سیکشن میں آدھے راستے پر ہوں گے اور جب 5 منٹ باقی رہ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔

اپنے جوابی پرچے پر سیکشن 2 تلاش کریں۔ جب تک میں نہ کہوں کام شروع مت کریں۔ اپنی جوابی شیٹ اور امتحانی کتاب کو ڈیسک پر چپٹا کر رکھیں۔ صفحات نہ موڑیں۔ جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 2 میں اپنے جوابات نشان زد کرنا یقینی بنائیں اور چیک کر لیں کہ آپ کے جوابات ہر نمبر شدہ سوال کیلئے درست جگہ میں ہیں۔

اگر آپ میرے وقت کے اختتام کے اعلان سے قبل فارغ ہو جاتے ہیں تو، آپ اس سیکشن میں اپنا کام چیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ امتحان کے کسی دوسرے حصے میں شرکت نہیں کر سکتے۔

اب اپنے امتحان کی کتاب کے سیکشن 2 کھولیں۔ ہدایات پڑھیں اور کام شروع کریں۔

امتحان شروع کرنے کے لئے، آپ کانگراں کسے گا:

وقت شروع ہوتا ہے اب۔

## سیکشن کے دوران

1.3.1

15 منٹ کے بعد آپ کانگراں کسے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 2 کیلئے 20 منٹ باقی ہیں۔

30 منٹ کے بعد آپ کانگراں کسے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 2 کیلئے 5 منٹ باقی ہیں۔

عین 35 منٹ کے بعد آپ کانگراں کسے گا:

کام کرنا روک دیں اور اپنی پینسل نیچے رکھ دیں۔

## سیکشن 2 امتحانی کتاب کی ہدایات

1.3.2

مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن نمبر 2 کے آغاز میں موجود ہدایات کا ترجمہ ہے۔



### 35 منٹ، 44 سوالات (معیاری وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کا جواب دینے کیلئے اپنی جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 2 پر جائیں۔

#### ہدایات

ذیل میں ہر اقتباس کے ساتھ کئی سوالات ہیں۔ کچھ سوالات کیلئے آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ خیالات کے اظہار کو بہتر بنانے کیلئے پیراگراف میں کیا تبدیلیاں کر کے اسے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ دیگر سوالات کیلئے، آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ جملے کی ترتیب، استعمال یا رموز اوقاف کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کیلئے پیراگراف میں کس طرح ترمیم کی جا سکتی ہے۔ پیراگراف یا سوال کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد تصاویر (جیسے کہ ٹیبل یا گراف) ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نظر ثانی کرتے ہوئے اور ترمیم کرنے کے فیصلے لیتے ہوئے پیش نظر رکھیں گے۔

کچھ سوالات آپ کو اقتباس کے خط کشیدہ حصے پر لے جائیں گے۔ دیگر سوالات آپ کو اقتباس کے کسی مقام پر لے جائیں گے یا آپ سے پورے اقتباس پر غور و فکر کرنے کا کہیں گے۔

ہر پیراگراف کو پڑھنے کے بعد، ہر سوال کا وہ جواب منتخب کریں جو سب سے زیادہ افادیت کے ساتھ پیراگراف میں تحریر نگاری کا معیار بہتر بناتا ہے یا جو پیراگراف کو انگریزی تحریر نگاری کے معیاری اسلوب کے مطابق ڈھالتا ہے۔ بہت سارے سوالات میں "کوئی تبدیلی نہیں" ("NO CHANGE") کا آپشن شامل ہے۔ اس اختیار کو اس صورت میں منتخب کریں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ بہترین انتخاب پیراگراف کے متعلقہ حصے کو جوں کا توں رہنے دینا ہے۔

## سیکشن 2 کے بعد

1.3.3

آپ کا نگران کہے گا:

اپنی جوابی شیٹ کو امتحانی کتاب کے اس صفحے پر رکھیں جس پر آپ نے کام کرنا بند کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب بند کر کے اسے اپنی ڈیسک پر چھوڑ دیں۔

## سیکشن 3: ریاضی کا امتحان۔ کوئی کیلکولیٹر نہیں

1.4



سیکشن 3 کا معیاری وقت 25 منٹ ہے، جس میں سیکشن کے آخر میں 5 منٹ کے وقفے ہوتے ہیں۔ اگر آپ منظور شدہ گنچائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے اوقات اور وقفے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے نگران کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ ترجمہ شدہ زبانی ہدایات کے بعد امتحانی کتاب کی ہدایات کا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کہے گا:

ہم سیکشن 3 کے ساتھ امتحان جاری رکھیں گے، ریاضی کا امتحان بغیر کیلکولیٹر کے ہے۔ ایک بار جب ہم شروع کریں گے، آپ کے پاس 25 منٹ ہوگا سیکشن 3 پر کام کرنے کے لئے۔ سیکشن کے خاتمے کے بعد ہمیں ایک مختصر وقفہ ملے گا۔ میں اسٹارٹ اور اسٹاپ ٹائم پوسٹ کروں گا، اور جب آپ سیکشن کے آدھے راستے میں ہوں گے اور جب 5 منٹ باقی رہ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔

آپ کا نگران کہے گا:

اپنے جوابی پرچے پر سیکشن 3 تلاش کریں۔ جب تک میں نہ کہوں کام شروع مت کریں۔ اپنی جوابی شیٹ اور امتحانی کتاب کو ڈیسک پر چھینا کر کے رکھیں۔ صفحات نہ موڑیں۔ جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 3 میں اپنے جوابات نشان زد کرنا یقینی بنائیں اور چیک کر لیں کہ آپ کے جوابات ہر نمبر شدہ سوال کیلئے درست جگہ میں ہیں۔

بیشرہ سوالات متعدد انتخاب کے حامل ہیں، لیکن آخری کچھ سوالات طلباء کے تیار کردہ جوابات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کو پُر کرنے کی ہدایات آپ کی امتحانی کتاب میں موجود ہیں۔ آپ کو اپنا جواب ریکارڈ کرنے کیلئے لکھی جہی 4 سے زیادہ جگہوں کی ضرورت نہیں ہوگی اگرچہ ممکن ہے کہ کچھ جوابات 4 جگہیں استعمال نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

اگرچہ یہ ریاضی کا سیکشن ہے، لیکن امتحان کے اس مرحلہ میں آپ کو کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی براہ کرم اپنے کیلکولیٹر کو اپنے ڈیسک کے نیچے رکھیں جب تک کہ آپ کو 4 فنکشن والے کیلکولیٹر کو برائے سہولت استعمال کرنے کی منظوری نہیں مل جاتی۔

گر آپ میرے وقت کے اختتام کے اعلان سے قبل فارغ ہو جاتے ہیں تو، آپ اس سیکشن میں اپنا کام چیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ امتحان کے کسی دوسرے حصے میں شرکت نہیں کر سکتے۔

اب اپنی ٹیسٹ بوک سیکشن 3 کھولیں، ہدایات پڑھیں اور کام شروع کریں۔

امتحان شروع کرنے کے لئے، آپ کا نگران کہے گا:

وقت شروع ہوتا ہے اب۔

## سیکشن کے دوران

1.4.1

10 منٹ کے بعد آپ کا نگران کہے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 3 کیلئے 15 منٹ باقی ہیں۔

20 منٹ کے بعد آپ کانگراں کے گا:  
آپ کے پاس سیکشن نمبر 3 کیلئے 5 منٹ باقی ہیں۔  
عین 25 منٹ کے بعد آپ کانگراں کے گا:  
کام کرنا روک دیں اور اپنی پینسل نیچے رکھ دیں۔

## سیکشن 3 امتحانی کتاب کی ہدایات

1.4.2



مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن نمبر 3 کے آغاز میں موجود ہدایات کا ترجمہ ہے۔

25 منٹ، 17 سوالات (معیاری وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کا جواب دینے کیلئے اپنی جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 3 پر جائیں۔


### ہدایات

برائے سوالات 1-13، ہر مسئلے کو حل کریں، فراہم کردہ انتخابات میں سے بہترین جواب منتخب کریں، اور اپنی جوابی کاپی میں متعلقہ خانے پر کریں۔ برائے سوالات 14-17، ہر مسئلے کو حل کریں اور اپنی جوابی کاپی کے خانوں میں جواب تحریر کریں براہ کرم سوال سے پہلے ہدایات دیکھیں 14 کہ جواب کر خانے میں کیسے پر کرنا ہے آپ فالتو کام کیلئے اپنے امتحانی کتابچہ میں دستیاب کوئی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔

### نوس

1. کیلکولیٹر کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔
2. استعمال کردہ سبھی متغیرات اور علامات ریاضی حقیقی اعداد کو ظاہر کرتی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
3. اس امتحان میں فراہم کردہ تصاویر پیمانے کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
4. سبھی تصاویر ایک ہی سطح پر ہوتی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
5. جب تک کہ اس کے برعکس نشاندہی نہ کی گئی ہو، دیے گئے فنکشن  $f$  کی ڈومین سبھی حقیقی اعداد  $x$  پر سیٹ ہے جس کیلئے  $f(x)$  حقیقی عدد ہے۔

### حوالہ



دائرے کے اندر خم کے زاویے کا عدد 360 ہے۔

دائرے کے اندر خم کے قطر کا عدد  $2\pi$  ہے۔

مثلث کے زاویوں کی ڈگری کی پیمائش کی جمع 180 ہے۔



جواب:  $\frac{7}{12}$       جواب: 2.5

جواب باکسز میں لکھیں۔

فریکشن کی لکیر

نقطہ اعشاریہ

نتیجے میں گرڈ۔

	7	/	1	2
	/	/		
	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

	2	.	5
	/	/	
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

کو گرڈ کرنے کے قابل قبول طریقے یہ ہیں:

$\frac{2}{3}$

	2	/	3
	/	/	
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

	.	6	6	6
	/	/		
	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

	.	6	6	7
	/	/		
	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

دونوں مقامات درست ہیں

جواب: 201 -

	2	0	1
	/	/	
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

	2	0	1
	/	/	
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

نوٹ: آپ کسی بھی کالم میں اپنے جوابات شروع کر سکتے ہیں جہاں جگہ اجازت دے۔ آپ جو کالم استعمال خالی چھوڑ دینا چاہیئے۔

### سیکشن 3 کے بعد

1.4.3

سبھی طلباء کے لیے، آپ کانگراں کسے گا:

اپنی جوابی شیٹ کو امتحانی کتاب کے اس صفحے پر رکھیں جس پر آپ نے کام کرنا بند کیا ہے۔ اپنی امتحانی کتاب بند کر کے اسے اپنی ڈیسک پر چھوڑ دیں۔

وقفے کے لئے، آپ کانگران کے گا:

اب ہم ایک مختصر وقفے کے لیے رکھیں گے۔ وقفہ کے لئے، اگر اسپینک لائیں ہیں، تو آپ صرف مخصوص مقامات پر ہی کھا سکتے ہیں۔ پہلے کی طرح، اگر آپ کو کمرہ چھوڑنے کی ضرورت ہو، مخصوص علاقوں، دالان، یا بیت الخلا کے علاوہ کہیں اور مت جائیں۔ بال میں باتیں نہ کریں، کسی کے بھی ساتھ امتحانی سوالات پر بات چیت نہ کریں نہ ہی کسی قسم کا الیکٹرونک آلہ استعمال کریں۔

ہم ٹھیک 5 منٹ میں دوبارہ امتحان شروع کریں گے۔

وقفے کے اختتام پر، آپ کانگران کے گا:

برائے کرم اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ جب تک میں نہ کہوں اپنے امتحان کا کوئی سیکشن نہ کھولیں۔

## سیکشن 4: ریاضی کا امتحان - کیلکولیٹر

1.5



سیکشن 4 کا معیاری وقت 45 منٹ ہے اگر آپ منظور شدہ گنجائش کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں تو آپ کے اوقات اور وقفے مختلف ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے نگران کی جانب سے پڑھے جانے والے اعلانات کو دھیان سے سنیں۔ ترجمہ شدہ زبانی ہدایات کے بعد امتحانی کتاب کی ہدایات کا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے۔

جب طلبا تیار ہو جائیں گے، تو آپ کانگران کے گا:

ہم سیکشن 4 کا امتحان جاری رکھیں گے، کیلکولیٹر کے ساتھ ریاضی کا امتحان۔ ایک بار ہم شروع کر دیں، آپ کے پاس 45 منٹ ہوگا سیکشن 4 پر کام کرنے کے لئے۔ میں آغاز اور رکنے کے اوقات تحریر کروں گا، اور میں سیکشن میں تقریباً آدھا وقت گزر جانے اور 5 منٹ باقی رہ جانے پر آپ کو آگاہ کروں گا۔

آپ کانگران کے گا:

آپ اس سیکشن کیلئے کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کیلکولیٹر ہے، برائے مہربانی ہر قسم کے کور کو ہٹا دیں اور اب کیلکولیٹر کو اپنے ڈیسک کے اوپر رکھ دیں۔ امتحان کے دوران کیلکولیٹر کو اپنے ڈیسک کے نیچے زمین پر رکھ دیں۔ اگرچہ اس سیکشن میں آپ کو کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت ہے، سارے سوالات کے جوابات بغیر کیلکولیٹر کے بھی دیے جاسکتے ہیں اگر آپ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں تو ان رہنما خطوط پر عمل کرنا یاد رکھیں:

- اپنے کیلکولیٹر کو اپنی ڈیسک پر چھٹی پوزیشن میں رکھیں یا اس طرح پکڑیں کہ دیگر طلبا آپ کا کام نہ دیکھ سکیں۔
- اپنے کیلکولیٹر کا اشتراک یا تبادلہ نہ کریں۔

- اگر آپ کے پاس بیک اپ کیلکولیٹر یا بیٹری ہے، انہیں اپنے ڈیسک کے نیچے زمین پر رکھ دیں
- اگر آپ کیلکولیٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس بیٹریاں یا بیک اپ کیلکولیٹر ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ میں آپ کی اعانت کرنے آؤں گا۔ اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے، تو امتحان جاری رکھیں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ اپنے جوابی پرچے پر سیکشن 4 تلاش کریں۔ جب تک میں نہ کہوں کام شروع مت کریں۔ اپنی جوابی شیٹ اور امتحانی کتاب کو ڈیسک پر چھپا کر رکھیں۔ صفحات نہ موڑیں جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 4 میں اپنے جوابات نشان زد کرنا یقینی بنائیں اور چیک کر لیں کہ آپ کے جوابات ہر نمبر شدہ سوال کیلئے درست جگہ میں ہیں۔

بیشتر سوالات متعدد انتخاب کے حامل ہیں، لیکن آخری کچھ سوالات طلباء کے تیار کردہ جوابات ہیں۔ ان کو بالکل اسی طرح پُر کریں جس طرح آخری سیکشن کو کیا تھا۔

آپ کانگران کسے گا:

گر آپ میرے وقت کے اختتام کے اعلان سے قبل فارغ ہو جاتے ہیں تو، آپ اس سیکشن میں اپنا کام چیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ امتحان کے کسی دوسرے حصے میں شرکت نہیں کر سکتے۔  
اب، اپنی امتحانی کتاب کو 4 تک کھولیں۔ ہدایات پڑھیں اور کام شروع کریں۔

امتحان شروع کرنے کے لئے، آپ کانگران کسے گا:

وقت شروع ہوتا ہے اب۔

## سیکشن کے دوران

1.5.1

20 منٹ کے بعد آپ کانگران کسے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 4 کیلئے 25 منٹ باقی ہیں۔

40 منٹ کے بعد آپ کانگران کسے گا:

آپ کے پاس سیکشن نمبر 4 کیلئے 5 منٹ باقی ہیں۔

عین 45 منٹ کے بعد آپ کانگران کسے گا:

کام کرنا روک دیں اور اپنی پینسل نیچے رکھ دیں۔

## سیکشن 4 امتحانی کتاب کی ہدایات

1.5.2



مندرجہ ذیل آپ کی امتحانی کتاب کے سیکشن نمبر 4 کے آغاز میں موجود ہدایات کا ترجمہ ہے۔

45 منٹ، 31 سوالات (معیاری وقت)

اس سیکشن میں موجود سوالات کا جواب دینے کیلئے اپنی جوابی شیٹ کے سیکشن نمبر 4 پر جائیں۔


### ہدایات

برائے سوالات 1-27، ہر مسئلے کو حل کریں، فراہم کردہ انتخابات میں سے بہترین جواب کا انتخاب کریں، اور اپنی جوابی کاپی میں متعلقہ خانہ کو پر کریں۔ برائے سوالات 28-31، ہر مسئلے کو حل کریں اور اپنی جوابی کاپی میں خانہ کو پر کریں۔ سوال سے پہلے ہدایات پڑھ لیں 28 کہ کیسے جوابات آپ کو خانے میں بھرنا ہے آپ فالتو کام کیلئے اپنے امتحانی کتا پچ میں دستیاب کوئی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔

### نوس

1. کیلکولیٹر کے استعمال کی اجازت ہے۔
2. استعمال کردہ سبھی متغیرات اور علامات ریاضی حقیقی اعداد کو ظاہر کرتی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
3. اس امتحان میں فراہم کردہ تصاویر پیمانے کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
4. سبھی تصاویر ایک ہی سطح پر ہوتی ہیں الا یہ کہ اس کے برعکس نشاندہی کی گئی ہو۔
5. جب تک کہ اس کے برعکس نشاندہی نہ کی گئی ہو، دیے گئے فنکشن  $f$  کی ڈومین سبھی حقیقی اعداد  $x$  پر سیٹ ہے جس کیلئے  $f(x)$  حقیقی عدد ہے۔

### حوالہ



دائرے کے اندر خم کے زاویے کا عدد 360 ہے۔

دائرے کے اندر خم کے قطر کا عدد  $2\pi$  ہے۔

مثلث کے زاویوں کی ڈگری کی پیمائش کی جمع 180 ہے۔

جواب:  $\frac{7}{12}$       جواب: 2.5

جواب باکسز میں لکھیں۔

فریکشن کی لکیر

نقطہ اعشاریہ

نتیجے میں گرڈ۔

	7	/	1	2
1	1		1	1
2	2		2	
3	3		3	3
4	4		4	4
5	5		5	5
6	6		6	6
	7		7	7
8	8		8	8
9	9		9	9

	2	.	5
1			1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9

برائے سوالات 28-31، ہر مسئلے کو حل کریں اور اپنے جواب کو خانہ میں، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے، جوابی کاپی پر درج کریں۔

1. اگرچہ لازمی نہیں ہے تاہم تجویز کیل جاتا ہے کہ آپ اپنا جواب کالمز کے ٹاپ پر باکسز میں لکھیں تاکہ بلبے بالکل درست طور پر بھرنے میں سہولت ہو۔ آپ کو کیڑٹ صرف اس صورت میں ملے گا جب بلبے درست طور پر بھرے ہوئے ہوں گے۔

2. کسی بھی کالم میں ایک سے زائد بلبہ کو نشان زد نہ کریں۔

3. کسی سوال کا جواب منفی میں نہیں ہے۔

4. کچھ مسائل کے ایک سے زائد درست جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں، صرف ایک ہی جواب گرڈ میں درج کریں۔

5. مخلوط نمبر جیسے  $\frac{3}{2}$  کو 3.5 یا  $\frac{7}{2}$  کے طور پر گرڈ کیا جانا چاہئے۔ (اگر  $\frac{3}{2}$  گرڈ میں داخل کیا جاتا ہے تو، اس کی ترجمانی  $3\frac{1}{2}$  سے ہوگی، نہ کہ  $\frac{3}{2}$  سے۔)

6. اعشاریہ کے جوابات: اگر آپ کو گرڈ کے مقابلہ میں زیادہ ہندسوں کے ساتھ اعشاریہ والا جواب ملتا ہے تو، یہ گول یا چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پورا گرڈ ضرور بھرنا چاہئے۔

کو گرڈ کرنے کے قابل قبول طریقے یہ ہیں:

$\frac{2}{3}$

	2	/	3
1	1		1
2			2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9

.	6	6	6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6			
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

.	6	6	7
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6			
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

دونوں مقامات درست ہیں

جواب: 201 -

	2	0	1
1	1	1	
2			2
3	3	3	3
4	4	4	4

	2	0	1
1	1		1
2			2
3	3		3
4	4		4

نوٹ: آپ کسی بھی کالم میں اپنے جوابات شروع کر سکتے ہیں جہاں جگہ اجازت دے۔ آپ جو کالم استعمال خالی چھوڑ دینا چاہیئے۔

### سیکشن 4 کے بعد

1.5.3

آپ کانگراں کسے گا:

اپنی جوابی شیٹ اس طرح بند کریں کہ صفحہ 1 اوپر رہے۔ اپنی امتحان کی کتاب بند کریں۔

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کہے گا:

اس سے پہلے کہ میں آپ کے امتحان کا مواد جمع کروں، براہ کرم اپنی جوابی شیٹ کو پلٹ دیں۔ اگر آپ بڑی پرنٹ والی جوابی شیٹ استعمال کر رہے ہیں، تو صفحہ 7 پر جائیں۔ چیک کریں کہ آپ نے فیلڈ A میں Form Code (فارم کوڈ) رُک کر دیا ہے۔ آپ کا امتحان اسکور کرنے کے لیے یہ فارم کوڈ درکار ہے۔ چیک کریں کہ آپ نے B اور C فیلڈز بھی مکمل کر لیے ہیں، اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ کو مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو براہ کرم اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

## 2 امتحان کے بعد

### 2.1 برخواستگی

آپ کا نگران کے گا:

مبارک ہو—آپ نے اب امتحان مکمل کر لیا ہے۔ جب تک میں آپ کو برخواست نہ کر دوں تب تک اپنی نشستوں پر رہیں۔

### 2.1.1 امتحانی کتب اور دیگر امتحانی مواد کا مجموعہ

جب سب تیار ہوں تو آپ کا نگران کے گا:

میں اب آپ کی امتحانی کتابیں اکٹھا کروں گا۔ برائے کرم اپنی جوابی شیٹس کو اپنی ڈیسک پر چھپا رکھیں اور خاموش بیٹھیں۔

### 2.1.2 ختم کرنا

سبھی طلبا کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

اگر آپ کو اب بھی اپنی جوابی شیٹ پر ذاتی، غیر امتحانی معلومات پُر کرنی ہیں تو براہ کرم اپنی جوابی شیٹ کا رخ نیچے کی طرف کر کے اپنی ڈیسک پر رکھیں۔ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور جوابی شیٹ میں کچھ نہ لکھیں جب تک کہ میں دیگر طلبا کو برخواست کر رہا ہوں۔ کچھ منٹ میں، میں آپ کی اپنی جوابی شیٹ کو مکمل کرنے میں مدد کروں گا۔

اگر آپ نے اپنی جوابی شیٹ پر تمام غیر امتحانی مواد مکمل کر لیا ہے تو براہ کرم اپنی جوابی شیٹ کا رخ اوپر کی طرف کر کے اسے اپنی ڈیسک پر رکھیں۔ جب تک میں آپ کو برخواست نہ کروں تب تک براہ کرم خاموشی سے بیٹھیں۔

### 2.1.3 طلباء کو برخواست کرنے کی تیاری

برخواستگی کے لئے تیار طلباء کے لئے

اگر آپ اور دیگر طلباء برخواستگی کے لئے تیار ہیں (اپنی جوابی شیٹ مکمل کر لی ہے) تو آپ کا نگران جوابی شیٹ کا جمع کرنا اور طلباء کی برخواستگی صفحہ پر 25 پر جانے گا۔

ان طلباء کے لئے جہنیں اپنی جوابی شیٹ مکمل کرنے کی ضرورت ہے

اتنی دیر تک انتظار کریں جب تک کہ کوئی طالب علم جو برخواست ہونے کے لئے تیار ہو اسے برخواست کر دیا جائے۔ آپ کا نگران مندرجہ ذیل ہدایات کے ساتھ جاری رکھے گا۔

### 2.1.4 جوابی شیٹوں کو مکمل کرنا۔

سبھی طلبا کے لیے، آپ کا نگران کے گا:

Student Answer Sheet Instructions کتابچہ نکالیں جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ جیسے جیسے میں آپ کے سامنے ہدایات پڑھوں تو آپ اس کتابچے کے ساتھ ساتھ چلیں۔

سبھی طلبا کیلئے، آپ کا نگران کے گا:

اپنے جوابی پرپے کا صفحہ 2 کھولیں۔ اگر آپ کی جوابی شیٹ پر ایسا لیبل ہے جس میں آپ کے گھر کا پتہ شامل ہے تو تصدیق کریں کہ آپ کا پتہ صحیح ہے۔ اگر لیبل پر آپ کا پتہ صحیح ہے تو آپ 9 سے لے کر 13 تک کی فیلڈ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے پتے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے یا آپ کے پاس اپنے پتہ والا لیبل نہیں ہے تو آپ کو جوابی شیٹ پر اپنا درست پتہ بھرنے ہوگا۔

اپنا پتہ بھرنے والے تمام طلباء سے، آپ کانگراں کے گا:

اپنے کتابچے *Student Answer Sheet Instructions* میں لکھنے کے لیے اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور 9 سے 13 کے خانوں میں اپنے پتے کے گول دائرہ کو پر کریں۔ اگر آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ کے گھر کا پتہ تبدیل ہو گیا ہے تو آپ اپنے College Board اکاؤنٹ سے ہمیشہ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔

فیلڈ 14 کے لیے، آپ کانگراں کے گا:

فیلڈ نمبر 14 آپ کا موبائل نمبر طلب کرتی ہے۔ صرف امریکی موبائل نمبرز قابل قبول ہیں۔ یہ فیلڈ اختیاری ہے۔ اگر آپ اپنی جوابی شیٹ میں درج شرائط سے متفق ہیں تو اپنا فون نمبر درج کریں۔ مکمل کرنے کے بعد برائے کرم سامنے کی طرف دیکھیں۔

فیلڈ 15 کے لیے، آپ کانگراں کے گا:

فیلڈ 15 پوچھتا ہے کہ کیا آپ College Board طلباء کی تحقیقی سروس (Student Search Service) میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ خدمت آپ کو مواقع کے ساتھ مربوط ہونے میں مدد کر سکتی ہے۔ سے کے "ہاں" ("Yes") کہنے سے طلباء کی تحقیقی سروس (Student Search Service) کا بچوں، غیر مسفعتی اسکالرشپ پروگراموں، اور دیگر تعلیمی اداروں کو ان کے پیش کردہ تعلیمی اور مالی امداد کے مواقع کے بارے میں معلومات سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ فیلڈ 15 کو پُر کرنے کے لیے اپنے *Student Answer Sheet Instructions* کتابچے میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہوں، تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔

اب آپ کانگراں کے گا:

فیلڈ 16 سے لے کر 21 تک کے سوالوں کے آپ کے جوابات سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ امتحانات اور خدمات مفت اور تمام طلبہ کے لیے مفید ہیں۔ آپ کے جوابات کو تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کے بائی اسکول، اسکول ڈسٹرکٹ اور ریاست کے ساتھ اس کا اشتراک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے، ہم تمام طلبہ کو یہ سیگنل مکمل کرنے کی پرزور ترغیب دیتے ہیں۔

اگر آپ نے فیلڈ میں طلباء کی تحقیقی سروس (Student Search Service) کے لیے "ہاں" ("Yes") کا انتخاب کیا ہے تو، فیلڈ میں 16، 18، 21، اور 22 کے سوالوں کے آپ کے جوابات کو کالج، اسکالرشپ، اور دیگر تعلیمی پروگراموں کے ساتھ شریکے جا سکتے ہیں۔

فیلڈ 16 سے لے کر 22 تک اختیاری ہیں۔ اگر آپ کے والدین یا سرپرست نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کوئی اختیاری یا رضاکارانہ معلومات کو مکمل نہیں کرنا چاہیے تو، برائے کرم جب ہم ان شعبوں میں جاتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھیں۔ ایسی کوئی بھی فیلڈ پُر نہ کریں جو ایسی معلومات طلب کرتی ہے جسے فراہم کرنے سے آپ کے والدین یا سرپرست نے آپ کو منع کیا ہے۔

سبھی طلباء کے لیے، آپ کانگراں کے گا:

اب، سوالات نمبر 16 سے 21 کے جوابات کے لیے کتابچے *Student Answer Sheet Instructions* کی معلومات کو پڑھیں۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

اگر آپ کانگراں آپ سے فیلڈ 22 کو چھوڑنے کو کہتا ہے، تو وہ اگلی اسکریپٹ کو چھوڑ دیں گے۔

طلباء کے تیار ہونے پر، فیلڈ 22 کے لیے، آپ کانگراں کے گا:

اپنی جوابی شیٹ کے پچھلے حصے میں فیلڈ 22 تلاش کریں۔ اپنا امی میل پتہ فراہم کرنے کے بارے میں معلومات کو پڑھیں۔



اگر آپ ای میل ایڈریس فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے بلبہ بھریں کہ آیا ای میل پتہ آپ کا ہے یا والدین کا ہے یا سرپرست کا ہے۔ College Board معلومات بھیجنے کے لیے ای میل ایڈریس کا استعمال کرے گا جیسے کہ آپ کے اسکور آن لائن دستیاب ہونے کے وقت۔

اگر آپ نے Student Search Service (سٹوڈنٹ سرچ سروس) کا انتخاب کیا ہے، تو آپ اس ای میل ایڈریس پر بھیجے گئے کالجوں سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مکمل کرنے کے بعد سامنے کی طرف دیکھیں۔

سبھی طلباء کے لیے، آپ کا نگران کہے گا:

اب ہم نے آپ کی ذاتی معلومات مکمل کرنے کا کام پورا کر لیا ہے۔ برائے کرم اپنی جوابی شیٹ بند کریں۔ اپنی جوابی شیٹ اور Student Answer Sheet Instructions کتابچے کو اپنے ڈیسک پر رکھیں۔ جب تک میں آپ کو جاننے کی اجازت نہ دوں تب تک برائے کرم خاموشی سے بیٹھیں۔

## 2.1.5 جوابی شیٹ کا جمع کرنا اور طلباء کی برخواستگی

آپ کا نگران کہے گا:

یاد رکھیں، آپ کو کسی بھی حالت میں ٹیسٹنگ روم سے کوئی ٹیسٹنگ مواد نہیں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، یا کسی کے ساتھ ای میل، نیکسٹ میسجز، یا انٹرنیٹ سمیت کسی بھی طرح سے ٹیسٹ کے مضمولات پر تبادلہ خیال یا شیئر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے امتحان کے آغاز میں کہا تھا کہ، اگر کوئی شخص ٹیسٹ سکورٹی سے متعلق ان پالیسیوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو، اس کے اسکور کو منسوخ کر دیا جائے گا اور مستقبل میں انہیں College Board کے دوسرے ٹیسٹ لینے سے بھی روکا جاسکتا ہے۔

آپ کے اسکور دستیاب ہونے پر اور آن لائن اپنے مکمل اسکور رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے سے آپ کو باخبر کیا جائے گا۔ آپ اپنے مخصوص ٹیسٹ کے نتائج پر مبنی، مفت، ذاتی نوعیت کی SAT پریکٹس کے لیے Khan Academy سے بھی لنک کر سکیں گے۔

جب تک میں آپ کی قطار برخواست نہ کر دوں تب تک برائے کرم اپنی نشست پر انتظار کریں۔ اس وقت، آپ اپنا سامان جمع کر سکتے ہیں۔ جب آپ باہر نکلیں تو برائے کرم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو اب بھی دوسرے کمروں میں کام کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر، آج آپ کی سخت محنت پر مبارکباد۔

یہ ترجمہ شدہ کتابچہ اپنے نگران کو واپس کریں جیسے ہی آپ امتحانی کمرہ چھوڑتے ہیں۔